


Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Execution Petition No. 563/2022

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	21.09.2022	<p>The execution petition of Mr. Mehram Shah resubmitted today by Miss. Ansa Gandapur Advocate. It is fixed for implementation report before touring Single Bench at D.I.Khan on _____. Original file be requisitioned. AAG has noted the next date. The respondents be issued notices to submit compliance/implementation report on the date fixed.</p> <p style="text-align: right;">By the order of Chairman  REGISTRAR</p>

SCANNED
KPST
Peshawar

①

باجلاس

واجب القدر خیبر پختون خواہ - سروس ٹری بیونل - پشاور

درخواست اجراء تحت دفعہ نمبر 7۔۔۔۔۔ سروس ٹری بیونل ایکٹ سال 1974

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Din No. 1402

21-9-2022

مہرام شاہ (ولڈ شیریٹ) فارسیٹ گارڈ معرفت سب ڈویژنل فارسیٹ آفیسر۔ ٹانک رینج۔ ٹانک۔۔۔

اجراء طلبگار۔ سائل

برخلاف V/S

- 1- حکومت خیبر پختون خواہ۔ بذریعہ سیکرٹری فارسٹری۔ ماحولیات اور جنگلی حیات۔۔۔ پشاور
- 2- چیف کنزرویٹو سنٹرل اے، سدرن ریجن۔ پشاور
- 3- کنزرویٹو آف فارسیٹ۔ جنوبی سرکل۔ پشاور
- 4- ڈویژنل فارسیٹ آفیسر۔ ڈیرہ اسماعیل خان فارسیٹ ڈویژن۔ ڈیرہ اسماعیل خان کینٹ
مسئول الیہان۔ مدیونان

جناب عالی! سائل حسب ذیل عرضی داشت Petition بمبراد ایفاء اجراء حکم

مورخہ 24 ستمبر 2020۔ مصدرہ ازاں واجب القدر سروس ٹری بیونل بمقام ڈیرہ اسماعیل خان

- پیش کرنا چاہتا ہے۔

- 1- یہ کہ سروس اپیل نمبر 421، سال 2019
S7A
- 2- یہ کہ فریقین اپیل۔ مہرام شاہ مذکورہ بالا برخلاف حکومت وغیرہ مذکورہ بالا
- 3- یہ کہ حکم لائق ایفاء و ایصال۔ مورخہ 24 ستمبر 2020 نقل مورخہ لف ہے۔
- 4- یہ کہ مسئول الیہان مذکورہ بالا نے CPSLA بذریعہ میاں سعد اللہ جندولی ایڈووکیٹ سپریم کوٹ کچھ پیش کی ہے
جو کہ تاحال زیر التواء ہے اور میری معلومات کے مطابق عارضی حکم امتناعی جاری نہیں ہوا ہے
- 5- فی الحال آج تک کوئی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔
- 6- تنخواہ ماہانہ مع واجبی مراعات Emoluments از مئی سال 2005 تا 28.2.2019 واجب الادا ہیں مگر

مسئول ایہ نمبر 4 نے CPSLA کے زیر سماعت ہونے کی وجہ سے ادائیگی کرنے سے معذرت ظاہر کی ہے۔

7- یہ اولین درخواستِ اجراء ہے جو کہ اندر معیاد ہے۔

8- مسئول ایہ نمبر 4 ہی وہ حاکم ہے جو واجبات کی ادائیگی کے لئے پابند ہے۔ جب Drawing And

Disbursing Officer ہے اور حاکم مجاز ہے اور دیگر مسئول ایہاں۔ مسئول ایہ نمبر 4 کے نگران حاکم ہیں

9- یہ کہ تاکید حکم بنام مسئول ایہ نمبر 4، جو بھی حاضر سروس ہو کہ وہ ڈگری دار کے واجبات یکمشت ادا کر دیں اور

بصورت حکم عدولی حاضر سروس مسئول ایہ نمبر 4 کی آدھی ماہانہ تنخواہ کی ترقی Attachment کا حکم جاری کیا

جاوے۔ اور اسکو آئندہ کے لئے کسی ترقی کا حقدار نہ سمجھے اور نہ ہی اسکے Scale میں اضافے کا حکم صادر کیا

جاوے

20-09-2022 مسطور

عرض

مہرام شاہ فارسٹ گارڈ۔۔۔ اجراء طلبگار

ms
mh

بولات :
مس آئنسہ گندہ پور ایڈووکیٹ
عاشی کورٹ زیر
نگران : رستم خان گندہ پور
ایڈووکیٹ ایچ ٹی کورٹ
ڈیرہ اسماعیل خان
Rustam Khan

تصدیق بمقام ڈیرہ اسماعیل خان

با اقرار صالح تصدیق کی جاتی ہے کہ جملہ مراتب

درخواست اجراء میرے علم و یقین کی مطابق صحیح و درست ہے۔

20-9-2022

مہرام شاہ - سائن

ms
mh

Mob: 0306-942521-7


CNIC: 12201-3553896-7

P.3 Annexure - I

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR
AT CAMP COURT D.I.KHAN

Service Appeal No.421/2019

Date of Institution ... 21.03.2019
Date of Decision ... 24.09.2020



Mehram Shah Forest Guard S/O Sher Muhammad Forest Guard.

... (Appellant)

VERSUS

1. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Environment- Forest Peshawar
and three others.

... (Respondents)

Mr. Rustam Khan Kundi,
Advocate

... For appellant.

Mr. Muhammad Jan,
Deputy District Attorney

... For respondents.

MRS. ROZINA REHMAN
MR. ATIQ-UR-REHMAN WAZIR

... MEMBER (J)
... MEMBER (E)

JUDGMENT

ROZINA REHMAN, MEMBER : This service appeal is directed against the
Order No.52 dated 28th February 2019 whereby appellant was reinstated in
service with retrospective effect however the intervening period was treated
as leave without pay.

2. A brief account of facts of the instant case is that appellant Mehram Shah was appointed as Forest Guard in D.I.Khan Forest Division on 24.04.1985. During August 2014, he was transferred from Kaur Murtaza and Kaur Kot Azam Road and posted as Incharge Dabara Resumed Land, Waran Canal and Tank Kot Azam beat as the jurisdiction of Tank Sub-Division vide DFO D.I.Khan Office order No.92 dated 30.06.2014 and again posted as I/C Dabara Block vide Divisional Forest Officer D.I.Khan office order No.15 dated 07.08.2014. The appellant did not take over the charge of his new place of posting till 23.01.2015, therefore, he was placed under suspension vide order No.74 dated 23.01.2015 and attached with office of Sub-Divisional Forest Officer D.I.Khan Forest Sub-Division. Muhammad Nawab Forest Ranger I/C was appointed as inquiry officer who reported that the appellant failed to report arrival in the office, therefore, he was proceeded under Rule-9 of Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011 and his services were terminated. Instead of filing departmental appeal, he filed a writ petition in the august Peshawar High Court and vide order dated 22.03.2017, his writ petition was treated as departmental appeal with direction to approach the proper forum under the law. Instead of filing departmental appeal, he preferred appeal to the Service Tribunal which was accepted and vide order dated 28.11.2018 case was remanded to the respondents to decide his departmental appeal within a period of 90 days and vide order dated 28.02.2019, of Conservator of Forests Southern Circle Peshawar, order of D.F.O D.I.Khan dated 19.05.2015 was set aside. Appellant was reinstated in service with retrospective effect. However, the intervening period i.e. from 19.05.2015 to 28.02.2019 was treated as leave without pay with the remarks that the same will count towards his seniority

WITNESSED

MEMBER
Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal
Peshawar


24/1/20

and pension. Feeling aggrieved from the said order, instant service appeal was filed.

3. It was submitted by the learned counsel for appellant that the appellant did not engage in any job during period when he was subjected to departmental proceedings, therefore order in respect of denial of back benefits to the appellant, is against the law and he further contended that in view of the facts and circumstances of the case, the appellant was entitled to all the back benefits for the intervening period.

4. Conversely, learned DDA stated that he remained absent and failed to comply with the directives/orders of his superiors, therefore, was rightly not held entitled to the back benefits and the intervening period i.e. from the date of his termination i.e. 19.05.2015 till the date of his reinstatement was rightly treated as leave without pay. Learned DDA contended that disciplinary action was taken against the appellant in the light of Rule-9 of Khyber Pakhtunkhwa Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011 and all codal formalities were fulfilled. That the appellant did not join his duties as per orders of the D.F.O D.I.Khan and remained absent. He failed to perform his duty, therefore, he was not held entitled to pay & allowances.

5. Perusal of record would reveal that the appellant was appointed as Forest Guard on 24.04.1985, which is evident from the impugned order. Procedural defects in initiating the proceedings against the appellant were admitted. His prolonged service rendered in the department is also not disputed. There is no stigma on the conduct/character of the appellant during this prolonged service. There is nothing on record that the appellant was gainfully employed anywhere during the relevant period.

ATTESTED

 EXAMINER
 Khyber Pakhtunkhwa
 Service Tribunal

24/9/20

Page 6
Annexure B

6. For the facts, circumstances and reasons stated hereinabove, this appeal is allowed and the intervening period i.e. from 19.05.2015 till 28.02.2019 shall be treated as leave of the kind due. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED.
24.09.2020

W M
(Attiq ur Rehman Wazir)
Member (E)
Camp Court, D.I.Khan

Rozina Rehman
(Rozina Rehman)
Member (J)
Camp Court, D.I.Khan

Certified to be true copy


~~EXAMINED~~
Khyber Pachtunkhwa
Service Tribunal
Peshawar

Date of Presentation of Application 13/9/22
Number of Words 2800
Copying Fee 30/-
Urgent 5/-
Total 35/-
Name of Copyist _____
Date of Completion of Copy 13/9/22
Date of Delivery of Copy 13/9/22

A-NO: 421/19

با جلاس

Page 7 Annexure



واجب القدر فیبرہ بختون خواہ - سرویں ٹری بونل - پشاور

سرویں ٹری بونل اپیل تحت دفعہ 4 سال 2019

Appeal No. 421/19 STA-1974

مہراں شاہ ... فارسٹ ڈپارٹمنٹ - معرفت - سب ڈیوٹیشن

فارسٹ آفیسر SDFO ٹانک فارسٹ ریجن

ٹانک ... اپیل کنندہ / مرفوعہ گزار
بزخلاف ۷/۵

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal

Diary No. 376

Dated 21-3-2019

1- حکومت فیبرہ بختون خواہ - بزرگ سیکریٹری - قلمہ ما حولایت
Environment - Forests ... پشاور

2- چیف کنزرویٹو آف فارسٹ - سدرن انٹرنل ٹرین آئی
پشاور

3- کنزرویٹو آف فارسٹ - سدرن سیکٹر - پشاور

4- ڈیوٹیشن فارسٹ آفیسر - ڈیڑہ اسماعیل خان فارسٹ ڈویژن - DIK
ڈیڑہ اسماعیل خان

Respondents - مسائل ایہاں ...

Filed to-day

Registrar 21/3/19

سرویں ٹری بونل اپیل تحت دفعہ 4 قانون سرویں ٹری بونل آئی سال 1974

بصورت جنوری اپیل بزخلاف جنرل حکم نامہ 22 مورخہ 28 فروری 2019

بزخلاف عدم استحقاق Disentitlement - تنخواہ ماعانہ - از

2 مئی 2015 تا 28 جب اپیل کنندہ کو - فاضل مشور الیہد 3 نے

سروس پر نوٹس بہ ماضی - بحال Reinstated - کیا ہے -

اور متذکرہ باللہ - درمیانی سرٹیفیکٹ میں فراڈ کی عدم ادائیگی

Non performance کی وجہ سے اس سرٹیفیکٹ کے لئے - اپیل کنندہ

کو ماعانہ تنخواہ 8 BPs کے لئے مقدار نہیں قرار دیا گیا ہے -

The period of forced absence has been treated as leave without emoluments, thereby causing financial hardships for the Appellant

ATTESTED

Signature of the official

Handwritten signature and date 20/3/19

Re-submitted to-day and filed.

Handwritten notes and signatures on the right margin

استدعا :- بہ منظور شیخ مُرافعہ Appeal صزا
 فیصلہ/حکم عدتہ 28 فروری 2019ء کی ترمیم کی جا کر عدتہ
 مذکورہ کے لئے سن اپیل کنندہ انرافعہ گزار کو عدتہ
 1387 ایام کے لئے تنخواہ مع دیگر مراعات الاؤنس
 وغیرہ کا حقدار گردان لیا جاوے۔ ...

نوٹ تائے ابتدائی
 Preliminary Notes

نقل حکم نامہ درجہ 52/19/2015 لف ہے۔ نقل مرافعہ ابتدائی
 حسب الحکم واجب الاحترام سڑی بونل۔ نقل اولین زیر مُند
 حکم نامہ 103 درجہ 19/15/2015 ازاں مشول الیہ 4
 مع جدید وکالت نامہ لف ہے۔ یہ اپیل دفعہ 4
 سرورس سڑی بونل ایڈٹ سال 1974 کے تحت دائر کی جائیگی۔
 جناب مکرم مہراں صاحبان سڑی بونل
 اپیل کنندہ ~~مخمس~~ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ
 حسب ذیل عرض گزار ہے۔

- 1- یہ کہ اپیل کنندہ نے ابتدائی حکم نامہ 103 درجہ 19.5/2015 کے خلاف چارہ چوٹی کے خلاف کوئی کاروبار/occupation یا مزدوری نہیں کی۔ اور گھر پر ہی رہے۔
- 2- یہ کہ مذکورہ عدتہ بالاء کے دوران خدمت حاضری قصداً نہیں تھی۔ بلکہ مشول الیہ 4 کے جبر کی وجہ سے تھی۔ *there was no wilful Default*

3- یہ کہ اپیل کنندہ کی 30 سالہ مسلسل خدمات کو یکسر نہیں انداز یا حرفِ نظر رکھا گیا
The Appellant has been unfairly Targetted in the form of denial of Emoluments
 جب اپیل کنندہ نے کبھی بھی رخصت/استحقاقیہ Earned Leave کا مفاد نہیں لیا تھا۔

Rudra
 20/12/19

4- یہ کہ اعلیٰ عدالت ہائے اور ملک کے سروس سٹری لوج
 کا یہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ کہ عدم حاضری کے عرصہ کے دوران
 اگر اپیل کنندہ نے کوئی مستبادل alternate
 کاروبار یا پیشہ نہیں کیا یا نہیں کیا ہے
 تو ایسی صورت میں۔ اپیل کنندہ۔ تنخواہ کا حقدار ہوتا ہے
 5- یہ کہ دوران سماعت و ججٹ۔ اپیل کنندہ کو رضائی
 دلائل کی لجاڑت عطا کی جاوے۔

لہذا استدعا ہے کہ اپیل حذاذ منظور فرماوے
 کی جاوے۔ - The Appellant may; graciously;
 be allowed all back benefits w.e.f. 20.5.2015
 مدعی

میراج شاہ - فارمسٹ کارٹی -
 Mh

بوکالت :-
 رستم خان کنڈی
 ایڈووکیٹ
 کاٹھی کورٹ
 ڈیڑھ اعلیٰ خان
 و کاتب التعمیر
 درخشاہ

باقرار صالح تصدیق کی جاتی ہے
 کہ جلد مراتب اپیل حذاذ
 پر عمل و یقین کے مطابق
 صحیح و درست ہیں

اپیل کنندہ
 میراج شاہ
 Mh
 ATTESTED
 EXAMINER
 Federal Pakistan
 Service Tribunal



وکالت نامہ



کورٹ فیس

ایک روپیہ

ANSA ARMEEZA SARDAR

Advocate
bc-15-6108
Date of issue: September 2022
Valid upto: September 2025

Secretary
KP Bar Council

بعدالت جناب صاحب القدر خیر بخشون خواہ - سرکاری بیرون - پشاور
 منجانب میرزا شاہ سائل
 بنام حکومت خیر بخشون خواہ
 دعویٰ یا بیجھ
 تفصیل دعویٰ یا بیجھ در خواست اجراء سال 2022
 باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی وجود بدنی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ مقام ڈیڑہ اسماعیل خان
 مسی السہ امبال خان گنڈہ جورو نسیم خان گنڈہ ایڈووکیٹ پشاور
 کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ ٹیس ہر ٹوشی پر خود بذریعہ اختیار خاص رو برو عدالت حاضر ہوتارہوں گا۔ اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب
 موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر ٹوشی پر منظر حاضر نہ ہوا اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف
 ایسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا بیچے یا بروڈ تظیل بیرونی کرنے کے
 ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا بیچے یا بروڈ تظیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ
 ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ سماعت ہونے پر بروڈ تظیل یا پکھری کے اوقات کے آگے بیچے پیش ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ
 دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا عائدہ واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پروا خط صاحب موصوف مثل کردہ
 ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ، یا بجاوب دعویٰ یا درخواست اجراء کے ذریعہ نظر ثانی اپیل مگرانی و ہر قسم درخواست پر دخط تصدیق کرنے کا
 بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ذریعہ کے لئے اور ہر قسم کا روپیہ وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر ٹائی یا راضی نامہ و فیصلہ بر
 حلف کرنے، و اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیش مقدمہ مذکورہ بیرون از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل مگرانی و برآمدگی
 مقدمہ یا منسوفی ذریعہ یا درخواست حکم اختتامی یا قرنی یا گرفتاری عمل از فیصلہ اجراء کے ذریعہ یا پکھری صاحب موصوف کو بشرط ادا جنگی علیحدہ عینان بیرونی کا اختیار ہوگا
 اور تمام ساختہ پروا اختہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو
 کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا مگرانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا پکھری کو اپنے ہجرت کو اپنے ہجرت کریں۔ اور ایسے طریقہ قانون کو
 بھی ہر امر میں وہی اور دینے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو حکم ہر جانہ التوام پڑا، وہ صاحب
 موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری ٹیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور اپنی
 صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ سند رہے
 مورخہ 20 ستمبر 2022 سکول
 مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔
 العبد العبد العبد

Mob: 03069425217
CNIC: 12201-3553896-7

صبر شاہ - اجراء طلبگا

mf

Adwal
Adv HC
20-9-22

Accepted
Res
20/9/22

3706
2010 of 2022
Soc / Soc
2010 of 2022

Secretary
Kachon S.J. Khan

2022